

THE FLAME

www.ssgc.com.pk

The Official Magazine of Sui Southern Gas Company

Collusion in gas theft is a crime



Highlights

- Senators visit SSGC
- OGRA holds hearings
- SSGC-trade bodies meet
- Meter Plant's record output
- Directors' HQ3 visit
- A get-together in Islamabad
- Meet 'The Saviour'



**Sui Southern Gas
Company Limited**

NA speaker inaugurates gas supply to Badin towns



Dr. Fahmida Mirza, Speaker, National Assembly inaugurated gas supply to Badin towns of Nindo and Khoski and en-route villages including Choudhry Din Muhammad Jan Mohammad Vehro. The inauguration ceremonies, held on April 22, 2010, were attended by SSGC officials and citizens of the respective areas.

Dr. Zulfiqar Mirza, Minister for Home, Government of Sindh was also present at the ceremonies. SSGC was represented among others by Mushtaq Siddiqui, AGM (D), Sindh and Mohammad Hashim, Project Director.

The gas pipeline projects involved laying down 6 inch and 4 inch dia 23,000 kms supply main and 4", 3" and 1" dia 7,770 distribution mains with a total pipeline distance of 40,658 kms in Nindo and Khoski. The estimated cost of the project is Rs. 119.706 million. The projects stand to serve more than 1,175 customers in Nindo and Khoski.

On the other hand, more than 370 customers in Choudhry Din Muhammad Jan Mohammad Vehro will benefit from the project that involved laying down 4 inch dia 6.3 km supply main and distribution mains of 3" and 1" dia of 1.5 and 2.3 kms with a total pipeline distance of 10,254 kms. The estimated cost of the project is Rs. 25.358 million. ■


Editor's Note



Is cell phone texting destroying the human dialogue?

Cell phones have revolutionized the way people interact, and they have greatly improved both the accessibility and availability to reach others. The convenience of being able to rapidly reach someone has increased the level of instantaneous conversations. However, for those of us who have experienced 'old-fashioned' ways of conversing often find themselves asking if whether or not these the capabilities offered by cell phones have actually improved the quality of communication or have they simply increased quantity?

Text-messaging and using abbreviated words have become part of the norm. One of the funniest, yet sobering, commercials to have ever appeared on television is one where a mother and daughter are discussing cell phones and the daughter replies to her mother using text lingo. As amusing as it is, the sad reality is many people have started to incorporate this jargon into everyday talk and conversation, essentially destroying and removing elements out of traditional linguistics. What was once considered good conversation has been reduced to abbreviated words and abrupt catch phrases. Is it good or bad? What do you think? Let us know on flame@ssgc.com.pk.



Meet 'The Saviour'

**Rise Against
Natural Gas Theft and
Make a Difference.....**

NOW!



and repeatedly inculcating in the stakeholders that war against UFG is in our national interest.

The symbolic character of 'The Saviour' is the brainchild of Corporate Communications, conceptualized and created at a time when the clarion call for waging a battle against UFG has gained momentum. Thanks to our MD, Dr. Faizullah Abbasi who fully realizes the magnitude of the problem and has time and again reiterated that UFG is a clear and present danger that needs to be countered to take the organization back to its glory days.

Gas theft, meter tampering and gas leakages have a domino effect and to combat them each one of us has to take up the role of 'The Saviour' in whatever capacity we can. These threats just don't make our Company's bottomline vulnerable but clearly put a spanner in the wheels of industrialization.

If 'The Saviour' is not deterred by the enormity of the task, why should we? ■

The Flame Editorial Team

- S. Nasreen Hussain
- Salman A. Siddiqui
- Syed Imran Ahmed

Coordinator: Uzair Ahmed Khan
Photographer: Abul Kalam

Sui Southern Gas Company Ltd.
Corporate Communication
Department, 7th Floor, SSGC
House, Block 14, Gulshan-e-Iqbal,
Karachi-75300

PABX: 021-9902-1771-5,
1791,1720,1739

Fax: 9923-1622

E-mail: flame@ssgc.com.pk

Website: www.ssgc.com.pk

Designed by **PRESTIGE**

Senators share SSGC's perspective on bridging demand-supply gap

The management of SSGC gave an all-inclusive presentation on the Company's infrastructure and operations to the Senate Standing Committee on Petroleum and Natural Resources. The senators were on an exclusive visit to the Company Head Office on April 27, 2010.

The meeting was chaired by Senator Sabir Ali Baloch, the Standing Committee Chairman. Dr. Faizullah Abbasi, MD, SSGC and Azim Iqbal Siddiqui, DMD (Customer and Financial Services) apprised the senators about the current transmission and distribution projects, supply sources and category-wise sales in Sindh and Balochistan.

The senior management briefed the senators about the current status of line losses or unaccounted for gas (UFG) and the measures Company is taking in order to reduce it for improving the bottomline.

Besides the Company's top management, Senators Jahangir Badar, Haroon Khan, Mir Mohabat Khan Marri, Dr. Muhammad Ismail Buledi, Pervaiz Rashid and Shahid Hassan Bugti also participated in the proceedings.

The Senators noted with concern the alarming gas demand supply scenario and shared the management's perspective that fast-track implementation of Pakistan 'Mashal' LNG project and construction of transnational pipelines is imperative to bridge the gap. The senators stressed



Top to Bottom: Senator Baloch chairing the meeting; Jahangir Badar talking to media; MD & DMD (C & FS)



that SSGC must continue to work on an effective plan to counter gas shortages in Sindh and Balochistan.

The Chairman Standing Committee assured the SSGC management of full cooperation and support in providing gas to far-flung, deprived areas of Sindh and Balochistan.



Vital decisions taken with trade bodies

In view of the prevailing national energy crises, SSGC management held several rounds of meetings on April 28, 2010, with heads of industry associations namely S.I.T.E. Association of Industry, KATI, LATI, NKATI, FBATI and major CNG associations of Sindh and Balochistan.

After much discussion and persuasion, all CNG Associations representatives agreed to a one day CNG stations shutdowns every Friday from 12 noon to 12 noon Saturday (24 hours) in Sindh and Balochistan.

It was also agreed that the industries



working on 24/6 basis (not operating round-the-clock) in main industrial areas of Karachi will ensure staggered closure of gas supply on designated days.

CNG associations and trade bodies



representatives agreed to the mutually decided closure in the greater national interest.

Conserving energy is our collective responsibility

SSGC-trade bodies hold meeting for important decisions

In view of the national energy crisis, SSGC's management held an important meeting with leading trade bodies of Sindh and Balochistan including FPCCI, KCCI, SITE, KATI, APTMA and major CNG Associations on April 26, 2010. Decisions with regards to closure of gas to CNG stations and industries (not operating on around-the-clock) were taken and committees constituted to implement the decisions. The meeting was chaired by Dr. Faizullah Abbasi, MD, SSGC. Zubair Motiwala, Advisor to Chief Minister Sindh briefed the heads and senior members of Associations regarding major decisions taken during last week's Energy Summit which was chaired by Prime Minister Syed Yusuf Raza Gilani.

While emphasizing on the dire shortage of gas in the North which has lead to massive power outages, Mr. Motiwala requested the trade bodies present to cooperate with SSGC and the Government in saving 10 mmcf gas by closing down the CNG stations and 40 mmcf by suspending gas supply to industries for one day. In this regard, recommendations were taken from the representatives of the trade bodies, after which it was decided to put into effect the load management program.


SSGC management also informed the participants of the meeting that all the gas saved will be diverted to the power sector in Sindh (KESC, Jamshoro Power Plant and Kotri Power Station) to improve power supply to Karachi and interior Sindh. Apart from the above, gas consumption in fertilizer sector has already been reduced by 20%.

Two committees were formed, comprising DMD (C & FS), SSGC and Chairmen of CNG associations to decide on the exact day of the shutdown. Another committee comprising Razzak Hashim Paracha, Chairman, KATI, Nisar Shekhani and DMD, SSGC will list industries working on 24/6 to ensure staggered closure of gas supply.

Winding up the proceedings, Advisor to Government of Sindh and MD, SSGC said that the decisions are being made in the best national interest and demonstrates solidarity with the provinces in the North.

MD, SSGC hoped that the industries will continue to support and cooperate with SSGC in these challenging times.

The meeting was attended, among others,



by Abdul Majid Haji Mohammad, President KCCI, Salim Parekh, Chairman, SITE Association of Industry, Razzak Hashim Paracha, Chairman, KATI, Zain Bashir, Chairman, LATI, Abdul Sami Khan, Chairman, CNG Dealers Association of Pakistan, Malik Khuda Baksh, Chairman, CNG Stations Owners Association, Junaid Esmail Makda, Chairman, All-Pakistan CNG Association and former Chairmen of SITE Association namely Nisar Shekhani, Eng. M. A. Jabbar and Haroon Farooki. ■



MD applauds meter plant on record production



Dr. Faizullah Abbasi addressing the audience

March 2010 will go down in the annals of SSGC Meter Manufacturing Plant's history as its most productive month when 78,000 units were produced. To commemorate this feat, a special ceremony was held on March 31, 2010 at the Plant's premises with Dr. Faizullah Abbasi, MD, SSGC as the chief guest.

The Company's senior management, meter plant executives, staff and workers and CBA office-bearers were in full force to join in the celebration which was organized by Madni Siddiqui, ADGM (MP) and his team.

During March 2010, record 25,000 Remus G-1.6 and 53,000 Gallus 2000 G-4 meters were manufactured.

While felicitating the meter plant team for the record production, MD, SSGC said being an engineer, he has roughly worked out that 5 meters were manufactured in one minute which by all means is a major achievement.

The MD while recalling his stint at the Company's meter plant in the 1990s said that whenever there was a fault in the meter, he would revert to the floor operator since only the latter knew the crux of the problem. Similarly, when I was in the USA, I would always refer to the assembly man as he knew the exact remedy of the problem having manufactured the meters, the MD added.

The MD asked the floor workers present to suggest ways to further improve the features of the meter especially since a



Top to Bottom: MD joining meter plant staff in celebrating their latest success; ADGM (MP) welcoming the management and workers



number of PUG (Passing Unregistered Gas) meters cases are highly subjected to tampering. Earlier, Madni Siddiqui, ADGM (MP) thanked the senior management for its support.

He said that with the timely arrangement of meter components and effective motivation of the workers, the target was successfully achieved by the meter plant. Riaz Akhtar Awan, Chairman, Peoples Labour Union, CBA said that the management and workers must collectively work towards reducing UFG.

Later, meter plant's floor engineer Mr. Rashid, workers Kalim Siddiqui and Sadiq Ullah and Chairman, PLU joined the MD and the management in cutting the cake to celebrate the feat.

Syed Hassan Nawab, DMD (Operations



and Planning), Rahat Kamal Siddiqui, SGM (ES) Zuhair Siddiqui, SGM (MS), Salim Ahmed Mughal, SGM (Distribution), Zahid Mumtaz, ASGM (Customer Services),

Shaukat Baloch, ASGM (Transmission), Shahid H. Jafri, CFO, Yusuf J. Ansari, Company Secretary, Majid Malik, AGM (HR), Amir Mumtaz Khan, AGM (Admin. Services) and Dr. Ejaz Ahmed, PSO to MD were also present on the occasion. ■

OGRA holds hearings on SSGC's petition

At a public hearing of its plea before a bench headed by Oil and Gas Regulatory Authority's (OGRA) Chairman Tauqir Sadiq, the SSGC management gave a detailed presentation on the petition for the estimated revenue requirement (ERR) during the financial year 2010-11. The hearing was held on April 6, 2010 at a local hotel in Karachi. Mr. Tauqir Sadiq, Chairman, OGRA, Syed Hadi Hasnain, Member (Gas), Mir Kamal Marri, Member (Finance) and Dr. M. Ilyas Fazil, Member (Oil) heard the petition.

The Company was represented by Syed Hassan Nawab, DMD (O&P), Zuhair Siddiqui, SGM (MS), Salim A. Mughal, SGM (D), Zahid Mumtaz, ASGM (CS), Shaukat Baloch, ASGM (Transmission), Shahid H. Jafri, CFO, Yusuf J. Ansari, Company Secretary, Amin-ur-Rehman, GM (P&D), Syed Fasihuddin Fawad, Head of Regulatory Affairs (RA) alongwith other executives who were present on the occasion.

The shortfall in the company's ERR in 2010-11 has been worked out at Rs. 22,334 million over and above the prescribed tariff allowed by OGRA with effect from July'2010 mainly due to a rise in the cost of gas consequent upon the expected crude oil and HSFO average FOB prices at \$ 95 per barrel and \$492 per metric ton, respectively, and \$ 88.5 rupee parity. The SSGC management also pleaded with OGRA to revise the benchmark. Interveners included Nisar Shekhani, the former central chairman and representative of the All Pakistan Textile Processing Mills Association, Abdul Sami Khan, Chairman, CNG Dealers Association, Dr. Kazi Ahmed Kamal of KCCI, Kaukab Iqbal, Chairman, Consumers Association of Pakistan and Ghais Paracha, Chairman, CNG Association of Pakistan.

OGRA's Chairman remarked that the regulatory body was determined to protect the rights of all stakeholders in accordance with the law and in the best interest of the general public. He said that it was the duty of the Authority to balance the divergent interests of utility companies and consumers and added that OGRA will scrutinize all costs with the help of a team of professional engineers and financial and legal experts before deciding on new tariffs.

Similar hearings were also conducted in Quetta and Hyderabad in March and April 2010, respectively.



Glimpses from OGRA hearings



Directors, management inspect HQ3 operations

SSGC's Directors and senior management took a detailed visit of the HQ3 Compressor Station at Jamshoro, near Hyderabad on April 14, 2010.

Directors Mirza Mahmood Ahmad, Abbas A. Mehkri and Faisal Ahmed were accompanied by Salim Ahmed Mughal, SGM (D), Shaukat Baloch ASGM (T), Zahid Mumtaz, ASGM (CS), Shahid H. Jafri, CFO, Yusuf J. Ansari, Company Secretary, Mansoor Ahmed, DGM (Gas Dispatch), Shaukat Fazalani, GM (T) and Shakeel Bukhari, AGM (Measurement) who visited different facilities of the Compressor Station and exchanged views with the site engineers and workers.

The visit was coordinated by the Company Secretary. The HQ3 Compressor Station with 3x5, 800hp compressors was completely refurbished by SSGC engineers in 2004-05 with a net savings to the tune of Rs. 2 billion.



Audit and Accounts Training Institute takes study tour

A 20-member delegation of probationary officers from Audit and Accounts Training Institute, Lahore alongwith three faculty members visited SSGC Head Office on April 6, 2010. The delegation was on a study tour of public sector offices and corporations and was headed by Syed Imtiaz Hussain Bukhari, Director General, Audit and Accounts Training Institute, Lahore.

The group was first taken on a guided tour of the Company's meter manufacturing plant by Madni Siddiqui, ADGM (Meter Plant) and Rashid Mansoor, DCM (Production) where they were given a detailed presentation about the mechanics of gas measurement.

Later on I. M. Noorani, GM (Internal Audit) gave a presentation on the Company's operations and infrastructure to the young officers at the auditorium which was



I. M. Noorani, GM (Internal Audit), SSGC with the visiting probationary officers

followed by a brief question and answer session. A memento was presented by Director General, Audit and Accounts Training Institute, Lahore to GM (IA)

whereas the members of visiting contingent were presented with Company's corporate gifts.

PACRA delegation holds talks with DMD (C & FS)



A delegation of Pakistan Credit Rating Agency (PACRA) led by Adnan Afaq, Managing Director / Chief Executive visited Head Office on April 29, 2010 for a meeting with Azim Iqbal Siddiqui, DMD (Customer and Financial Services).

DMD (C& FS) gave a presentation on the Company's operations and financial performance to the team. Syed Hassan Nawab, DMD (O & P), Shahid H. Jafri,



CFO, Yusuf Ansari, Company Secretary, I. M. Noorani, GM (Internal Audit), Mir Shahid Ali, GM (Treasury Functions), Amin-ur-Rehman, GM (P&D) and Arsalan Iqbal, AGM (Accounts), were also present on the occasion.

Such PACRA visits which are a regular feature help its team to evaluate the capacity and willingness of SSGC to honor its debt obligations.



Media Relations

A get-together with Islamabad's media fraternity

In continuation to the receptions hosted in honor of media fraternity, Corporate Communication Department invited the Islamabad-based journalists for a get-together at the Islamabad Serena Hotel on April 28, 2010. Nearly 50 media persons representing the dailies, news agencies and television channels with a mix of energy and court reporters and the bureau chiefs spent two leisurely hours as for this invitation they did not have to carry their recorders, pads and cameras since it was clearly communicated to them in advance that this is purely an informal gathering with a motive to strengthen relationships.

Nasreen Hussain, Dy. General Manager (CCD) along with her team members Inayatullah Ismail, DCM (MR) and Salman A. Siddiqui, DCM (CCD) welcomed the friends from media at the Zamana Restaurant in Serena Hotel. The Ministry of Petroleum and Natural Resources was represented by Tauqeer Ahmed, Dy. Secretary (Development) and PRO Asif-ur-Rehman.

Amongst the eminent journalists were Director News APP Ilyas Chaudhry and his team, Kalbe-e-Ali and Nasir Iqbal from Dawn, Usman Cheema and Azam Khan



from The Nation, Zafar Bhutta, Mushtaq Ghumman and Qamar-uz-Zaman from Business Recorder, Terence J. Sigamony from Pakistan Observer, Qaiser Zulfiqar from Express Tribune, Asadullah Malik from Samma TV, Amir Jalil Bobra and Sohail Eqbal from News One and Kamran Haider from Reuters. After the sumptuous dinner, the guests were given a warm send-off with corporate gifts of the company.



Promotion letters given in presence of MD

Promotion letters were presented to the 22 newly designated Deputy General Managers in the presence of Dr. Faizullah Abbasi, MD, SSGC at a simple ceremony held in the Company's Boardroom on April 12, 2010. Respective divisional and departmental heads handed out the letters to their executives.

Earlier, the MD congratulated the newly designated DGMs on their promotions and said that this was the manifestation of the commitment and hard work they had put into their tasks and assignments. He said that the promotions must serve to motivate them to work even harder in order to curb the menace of UFG while spurring up their team members to do the same collectively. ■

MD identifies 6 potential leaders

Dr. Faizullah Abbasi has identified six potential leaders amongst 22 newly promoted DGMs. He emphasized on the potential leaders to justify their selection. The MD also advised concerned head of departments to groom potential leaders for the future by assigning them higher responsibilities.

The potential leaders are: Ms. Shaista Sajid Shaikh, DGM(IT), Syed Khalid Hasan, DGM(IT), Mr. Abbas Manghi, DGM(Services), Mr. Saleem Manghi, DGM(CP), Mr. Haseeb Ur Rehman, DGM(MM) and Mr. Habib Jamal, DGM(Meter Shop).

The MD advised the potential leaders to seek information through broader view and provide the way to clear the fog. Potential leaders were given the privilege to directly communicate with the MD through e-mail for sharing their ideas for organizational development. He advised potential leaders to share their knowledge, experience, and skills within business structure, required for success and practice ethical reasoning during any major decisions.

Syed Hassan Nawab, DMD (Operation & Planning) congratulated the potential leaders for their selection and endorsed MD's remarks. He advised them to be the kind of leaders others can emulate. ■



Organizational Re-structuring

Following executives have been promoted as DGMs with effect from April 9, 2010:



Mr. Ghulam Abbas Mangi
DGM (Electrical), H.O. Khi.



Mr. Habib Jamal
DGM (Meter Shop), KT



Ms. Shaista Sajid Shaikh
DGM (IT), H.O. Khi.



S. Khalid Hassan
DGM (IT), H.O. Khi.



Mr. Haseeb-Ur-Rehman
DGM (MM), H.O. Khi.



Mr. M. Saleem Mangi
DGM (CP) (Dist-Sindh), Hyd.



Mr. Ghulam Daraz Shaikh
DGM (CRD), Hyd.



Mr. Baig Muhammad Panhwar
DGM (Dist-Sindh), Hyd.



Mr. Tariq Muhammad
DGM (Construction), K.T.



Shaikh Manzoor Hussain
DGM (QA), H.O. Khi.



Mr. M. Sohail Khan
DGM (Dist-Khi), Site Khi.



S. Sardar Hussain
DGM (P&D), Hyd.



Mr. M Azhar Kamal
DGM (Dist-Khi), Site Khi.



Mr. Maqbol A. Channa
DGM (Sales), Hyd.



Mr. Mumtaz Hussain Shaikh
DGM (Accounts), Hyd.



Mr. Haroon Rashid
DGM (Dist-Bal.) Quetta.



Mr. Muhammad Amin
DGM (MM), H.O. Khi.



Mr. Habib-Ur-Rehman Khattak
DGM (Dist-Khi), Site Khi.



Mr. Shakeel Ahmed
DGM (Accounts), H.O. Khi.



Mr. Muhammad Hussain Khan
DGM (IR), H.O. Khi.



Mr. Ramchand
DGM (Transmission), K.T.



Lt. Col. (R) Raashid Ahmad
DGM (Sports), H.O. Khi.

Zahid Mumtaz takes over CS division as ASGM



In April 2010, company's veteran Zahid Mumtaz was promoted as ASGM (Customer Services). In his more than 32 years of service at SSGC, Mr. Mumtaz spent 26 illustrious years in Customer Services. During the 1990s and 2000s, Mr. Mumtaz was DGM (Billing) (in-charge of the entire billing of Karachi including ICD and SIU (now S&M), DGM (Statistics and Recovery) and DGM (Sales) as the Head of the Department. In February 2005, Mr. Mumtaz was promoted as GM (CRD). In March 2008, he was re-designated GM

(HSE). From November 2008 to March 2010, Mr. Mumtaz served as the Company's GM (HR-Operations).

An MBA from University of Leicester, UK, he did his BA from Government College, Lahore and F.E.L (First Examination in Law) from Punjab University Law College, Lahore.

We wish Mr. Zahid Mumtaz all the success in reinforcing SSGC's image as a customer-centric utility with a difference.

Befitting farewell for Mr. Habibullah Soomro



DMD (O&P) presenting a bouquet to Mr. Soomro

Habibullah Soomro, GM (Services) recently bid farewell to the Company after serving the Company with distinction for thirty four years. His colleagues gave him a befitting farewell in March 2010 by throwing in a series of lunches and tea parties. Mr. Soomro's Electrical Services Team took the lead in paying tribute to the man whose areas of specialization included electric power generation, telecommunication and SCADA, corrosion prevention and cathodic protection.

Syed Hassan Nawab, DMD (Operations and Planning), Rahat Kamal Siddiqui, SGM (ES), Shaukat Fazalani, GM (Transmission), Adnan Saghir Siddiqui, AGM (Services) and other executives and staff joined in to pay tribute to the illustrious career of Mr. Soomro.



Habibullah Soomro with his former colleagues at the farewell party



Farewell dinner for M. Ziauddin

Billing Department veteran M. Ziauddin retired from service after serving the Company with distinction from 1980 to 2010. The Billing Department, led by Major Mohammad Akhtar (R), GM (Billing) gave him a resounding farewell dinner at a local restaurant on April 2, 2010. Mr. Ziauddin was also presented a memento and a gift by his colleagues as a token of love and respect.



Wedding Bells

The wedding of Mr. Adnan Saghir Siddiqui, AGM (Services) with Ms. Rozilla was solemnized on April 13, 2010 in Karachi. We congratulate the couple on their marriage and wish them all the happiness in the world.



Training programs form the core of the efforts

CP Department takes lead in UFG-reducing steps

SSGC being the pioneer gas transmission and distribution company in Pakistan truly understands and realizes the importance of corrosion protection on its Above and Underground Pipeline network (AUPN). Corrosion not only damages the pipeline but also causes heavy gas and human losses along with contributing to the environmental pollution. In transmission pipeline network, a minor gas leak announces its presence by whistling loudly due to high pressure and at the same time it can cause huge loss in a very short time as compared to low pressure distribution pipeline gas leak.

However, due to the low pressure the AUPN gas leaks are comparatively silent and are not easily detectable. Therefore, special tool, equipment and survey techniques are used to detect gas leaks on AUPN. Besides the above mentioned losses, corrosion also causes;

- Increase in Unaccounted for Gas (UFG)
- Gas interruption to our valued customer, creating inconvenience and mental stress
- Reduction in the production of commercial and industrial customer
- Affecting overall country's economy and progress with many other indirect commercial losses
- Waste of company resources on remedial and rectification measures taken.

All these losses arising on the part of corrosion could be controlled and reduced through strict compliance with quality control during new construction and pipeline maintenance activities through Cathodic Protection on underground steel pipeline network. Because CP system is not effective on above ground steel structures and pipeline network, therefore suitable paints are used to prevent shield corrosion.

Over the last few years the increasing percentage of UFG is of great concern to SSGC and all efforts are being taken to reduce it.

The CP Department is also striving hard by keeping a strict eye on the standard of new pipeline construction work by ensuring quality workmanship and regular maintenance for an uninterrupted operation of Cathodic Protection systems. In this regard the following activities are carried



- out as per the OGRA' directives;
- Inspection of tape coating application on small diameter line pipes at Khadeji camp coating yard
 - Monitoring quality control on new pipeline construction projects by providing prompt CP cover
 - Frequent inspection of CP Stations to monitor their performance and maintain minimum interruption of power supply, including replacement of commercial power supply with reliable DC power supply units
 - Carrying out close interval potential (CIPS) and other pipeline coating inspection survey to detect bad coating and carry out bell inspection to physically check the pipeline integrity at hot spot
 - Rehabilitation of bad coating segment to prevent the pipe from soil contact. Consequently reducing the probability of corrosion to save CP current and spread the effectiveness of CP system over a greater area of pipeline network
 - Providing CP Technique training to CP, Maintenance and Pipeline Engineers creating awareness about the source and causes of corrosion. Long term impact of quality control for reducing UFG and understanding CP techniques

and its importance to combat pipeline corrosion. In this regard, continuous CP training programs are being arranged through Gas Training Institute (GTI) at Karachi Terminal. Recently a five-day training program was conducted by Mr. Muhammad Saleem Manghi Chief Engineer CP, Distribution Sindh at Regional Office Larkana in which theoretical and practical aspects were touched upon. For a practical demonstration, participants visited transmission main pipeline valve assembly and CP Station at Repeater Station, Larkana.

The participants individually recorded various CP readings at different pipeline locations and CP Stations to practically understand the working of cathodic protection system.

The visitors appreciated the well maintained house keeping at Larkana Office and praised the hospitality and efforts made by Mr. Ghazi Anwar, Incharge, Shikarpur Headquarter (Transmission). ■

Courtesy: Muhammad Saleem Manghi – Chief Engineer CP, Distribution Sindh

Tragic assassination of Khalid Mahmood Malik condemned

Khalid Mahmood Malik, Chief Manager (Customers Relations) Quetta Region was gunned down in Quetta by some unknown armed men on Monday April 5, 2010, while he was leaving his home for office with his driver. Both of them sustained multiple bullet injuries and while they were being shifted to the hospital, Khalid succumbed to serious wounds. The driver Naseem who was seriously injured was later successfully operated and is recovering fast. The armed assailants made good their escape.

As the news of Khalid Mahmood's Shahadat spread, his colleagues in regional office, friends and relatives rushed to the Civil Hospital. Dr. Faizullah Abbasi, MD, SSGC directed the senior company officials to immediately proceed to Quetta to condole the family of Khalid Mahmood on his tragic death.

The delegation comprising of Brig. (R) Mukhtar Ahmed, DG (Security), Abdul Majid Malik, AGM (HR), Major Mohammad Akhtar (R), GM (Billing), Aminullah Khan, GM (CRD), Fayyaz Merchant, AGM (Sales), Shahabuddin Siddiqui, General Secretary



SSGOA and Ejaz Baloch, President Peoples Labour Union (CBA) visited Khalid Mahmood's residence in Quetta and sympathized with his widow and younger brothers. They conveyed MD's message and expressed their grief on the sad demise of a very efficient, hardworking and loyal officer. The contingent offered *fateha* and prayed for the departed soul to rest in eternal peace. A. Majid Malik, AGM (HR) informed the family that on the special instructions of the MD, the management is strongly considering to offer employment

to one of the children on humanitarian grounds on top priority basis. DGM (D) Balochistan, Haroon Rasheed and other senior officials of Quetta Region were also present on the occasion.

Meanwhile, on the appeal of Shahabuddin Siddiqui, General Secretary SSGOA, the officers and staff of SSGC registered their strong protest against the tragic murder of late Khalid Mahmood in the regional and zonal offices located all over Sindh and Balochistan. A large number of officers and staff assembled at the Head Office to offer *fateha* for the departed soul.

On this occasion, Dr. Ejaz Ahmed, President SSGOA, Irfan Jafery, Vice President, Shamsul Haq Kakar, Regional Secretary Quetta and Saeed Khan, Vice President Peoples Labour Union (CBA) addressed the gathering and demanded early arrest of killers. Such protests were also held at Quetta, Hyderabad, Nawabshah and other SSGC offices. ■

Courtesy: Inayatullah Ismail – DCM (MR) Corporate Communications

Transitions

- Mother of Mr. Umair Khan, former MD, SSGC passed away on April 22, 2010.
- Mother of Sq. Leader (R) Anjum Ali Kazmi, Dy. Chief Manager, Medical Services passed away in April 2010.
- Mother of Syed Irtiza Ali of MM department left for heavenly abode.
- Syed Elias Shah, former Manager (Finance), SSGC and father of Syed Fayaz Shah, DCM (AFU-Billing) expired in April 2010.

May the departed souls rest in eternal peace. *Ameen*

Fast track work appreciated

In a letter to the MD, Dr. Hoshang S. Anklesaria, Chairman and Managing Trustee, Goolbano and Dr. Burjor Anklesaria Nursing Home lauded SSGC's Distribution, Sales and RA Departments or providing gas for captive power generation at his hospital.



Goolbano & Dr. Burjor Anklesaria
NURSING HOME

Garden Road, Karachi-74400.

Phones: 272 03 71, 272 03 74, 272 03 75, 272 03 85, 272 69 24 Fax No. 2720867

The Managing Director,
SSGC, Karachi

Sub: SUPPLY OF GAS FOR CAPTIVE POWER GENERATION

Dear Sir,

I would like to extend my sincere thanks to you and to convey my appreciation for the quality work done by SSGC for providing gas for Captive Power Generation at my hospital. It is reassuring to note that the work was carried out well in time by your senior executives and their dedicated team. Please convey my thanks to Shoaib Warsi, GM (Distribution), Sultan Rasheed, the then DGM (Sales), Dr. Ejaz Ahmed (P.S.O to MD) and Farokh D. Variava, CM (RA) Head Office, under whose supervision the entire operation was completed.

Thanking you,

Yours faithfully
Dr. Hoshang S. Anklesaria, Chairman & Managing Trustee

Businessmen meet senior management

Prominent businessmen Nisar Shekhani and Salim Parekh visited SSGC in April 2010 for talks with its senior management. Dr. Faizullah Abbasi, MD, SSGC, Azim Iqbal Siddiqui, DMD (C & FS) and Syed Hassan Nawab, DMD (O & P) participated in the talks



Management meets CNG Dealers Association

CNG Dealers Association led by its Chairman Abdul Sami Khan, visited SSGC in April, 2010 and held useful talks with the Company management.

Syed Hassan Nawab, DMD (O&P) and Zahid Mumtaz, ASGM (CS) along with other GMs and DGMs discussed matters of mutual interest with the delegation



Khalid Mahmood's assassination condemned

SSGOA office-bearers and members staged a protest meeting against the tragic killing of Khalid Mahmood, Chief Manager, Customer Relations, Quetta Region. The SSGOA and PLU (CBA) office-bearers also talked to the media on the occasion



Reception for PLU from SITE workers

SSGC's SITE workers gave a grand reception in honour of People Labour Union (PLU), CBA office-bearers in the office premises. They presented gifts to the office-bearers. The high point of the reception was the conferring of a gold crown to Ejaz Baloch, President, PLU by the SITE workers



Reception for PLU office-bearers

PLU (CBA) office-bearers led by its President Ejaz Baloch were given a dinner reception by Malik Brothers of SITE office for successful passage of the Charter of Demands



Activities of CP Department Nawabshah

Department Nawabshah recently carried out the commissioning of CP station by installing a thermoelectric generator at 4" dia SM Noushero Feroze near village Malhar

Khan Rajper to provide uninterrupted protection for pipeline. Pictures show Nadeem Ahmed Memon, Sr. Engineer with Supervisor Sagheer Ahmed for data collection of CP Station at Village Malhar Khan Rajper, Padidan.

Picture combo also shows the two dedicated Nawabshah officials physically inspecting the new village scheme of 4" dia SM Manjuth to Darbelo to monitor the overall activities and measures taken for pipeline protection



HR-OD holds UFG orientation

Adnan Rehman, DCM (HR-OD) addressing executives as part of the HR-OD's awareness program on UFG reduction at the Head Office



Mr. Rashid elevated

Haroon Rashid, the newly designated DGM (Distribution-Balochistan) receiving his promotion letter from Salim Ahmed Mughal, SGM (D) in the latter's office



MP&NR official's visit

Choudhry Afzal (second from right), Section Officer, Ministry of Petroleum and Natural Resources, GoP visited SSGC Head Office in April 2010. Here he is seen with Zahid Mumtaz, ASGM (CS), S. Nasreen Hussain, DGM (CCD) and Ather A. Siddiqui, DGM (CRD) at DGM (CCD)'s office.



Ghumman lauded by MD

Dr. Faizullah Abbasi, MD, SSGC gave a cash award to skipper of Pakistan Under-19 Cricket Team, Azeem Ghumman, a vital member of the Company's Cricket Team for leading his side to the final of the recent Under-19 World Cup.

CANVAS



18



19

THE FLAME *Life*

8 ways to help yourself and others

How to ask for guidance

Whether you're looking for relationship insight or career counseling, ask yourself three questions: Does my adviser value the same things I do? Does he have a stake in the advice? Does he know what he's talking about? For example: When a mechanic says your car needs more than a tune-up, you might get a second opinion. In fact, always get a second opinion, whether it's about your car, your health, or your teenager.

How to give guidance

Do it cautiously. Most people don't want advice unless they ask for it. When your advice is asked for, avoid answering too quickly, listen carefully to your advisee's account of the situation and answer based on what he should do not necessarily what you would do, and determine what the recipient really wants.

How to deal with anger

The three best ways to cope with your anger (and avoid the defibrillator): One, recognize that anger is universal. Second, ask yourself if whatever made you angry is important. Third, talk yourself down.

How to survive

Former lawyer, mother of four, and wife of US former presidential candidate John Edwards, Elizabeth Edwards, 60, has endured the death of her beloved son Wade at 16, the recurrence of her breast cancer, and most recently, public revelations about her husband's private behavior on the campaign trail. Among her rules for living: Adversity is everywhere. But so are examples of people who are making a meaningful life from the materials at hand. This is what life is, feel it all. Take comfort where you find it.

How to take feedback

If someone is giving you feedback, make



him or her feel that it's okay to do so. If you act defensively, get angry, or push back, your adviser will make a note to self: "I won't be doing this again." If you make it hard for others to give you feedback, then your colleagues and friends will avoid you but act on their feelings anyway. It will help if you think of feedback as simply data. Keep it in perspective. You want to combine it with a hundred other pieces of information. Don't supercharge any one piece of it. Use it as a clue.

How to give feedback

"The # 1 rule of constructive criticism is again make the other person feel safe. You've got to let that person know you care about her success while you're addressing your concerns."

How to be honest

Nobody actually wants to be a liar. But it's just so easy to fudge, blur, omit, and recast

information-on even everyday matters-for effect or self-protection. To inculcate honesty (in yourself and in others), think about values ("What kind of person do I want to be?"), not rules ("I should not ..."). More pointers: Own up. Honesty is more than not telling lies. Think of the children. As a grown-up, you set the terms. Accept, and vow to change. You're honest when you do the right thing even when nobody is looking.

How to help a friend who's lost her job

There's no shame in losing a job, so don't give a laid-off friend the puppy dog-eye treatment. Act the way you always do. DO be the first one to reach out, make supportive comments that remind her of her value and offer to start strategizing and networking as soon as she recovers. DON'T treat her like a charity case, offer platitudes, or engage in tough love. ■

Unconventional gas resources and opportunities for Pakistan

Global natural gas demand is expected to rise to 4.3 TCM in 2030 from the current demand of 3.0 TCM. More than 80% of this increase will take place in countries outside OECD, in developing nations, including Middle East, China, India and Africa and mostly in their power sector. Global gas reserves are huge enough to meet the conceivable demand through 2030. The global recoverable gas reserves are 850 TCM, of which 45% is unconventional gas (shale/tight gas, offshore ultra deep water and CBM).

US natural gas market is the largest in the world and has expanded significantly since the mid-1980s. As conventional producing area matures and as demand growth continues, new productive capabilities in Arctic, offshore Atlantic Canada, coal bed methane, tight/shale gas and deep gas holds the future. In North America, increased natural gas production will come from unconventional sources, mainly shale gas, coal bed methane (CBM), offshore ultra deep wells, etc. Current natural gas production in US including CBM, LNG and shale gas is 58 Bcfd, whereas USA's gas consumption is around 75 Bcfd. The shortfall is met through import of gas from Canada, Trinidad and LNG from Algeria.

The offshore Gulf of Mexico (GOM) is one of the foundations of US natural gas and oil productions with 10 Bcfd of gas production and 1.5 MBpd of oil output as of today, supplied through 30,000 miles of offshore pipelines. However, all this is coming through shallow waters of Texas, Louisiana and Mississippi. Yet to be discovered are untapped wealth of 230 Tcf of natural gas and 45 billion bbls of oil which lie at depth varying from 10,000 feet to 28,000 feet water depths of GOM. Technologies are to be developed to cater to temperatures exceeding 350F and ultra high pressures of 10,000 pounds per sq. inch. Corrosion resistant nickel, chromium and titanium alloys are being developed to handle extreme operating conditions.

Growth of unconventional gas resources

The US revolution in shale gas extraction has fundamentally reshaped the entire gas market. The US gas production grew 3.9 % last year. There are at least 24 substantial shale-gas reservoirs in North America with recoverable reserve estimated to be as much as 800 Tcf. Shale gas can be



By Mustafa Abdulla, GM (Corrosion Prevention)

produced economically at well-head prices ranging between \$3.50-7.50/MMbtu. The variation is primarily a function of reservoir characteristics. US shale gas production grew to 6.5 Bcfd in 2009 from 800 Mcfd only in 1998; this steep increase was only possible due to fast track development in drilling technology and use of innovative methods.

Shale is the sedimentary rock consisting of clay and silt-sized particles consolidated with simultaneously deposited organic materials. The deposits are compacted by subsequent additional sedimentary deposits into thinly layered shale rock. The layers have limited horizontal permeability and extremely low vertical permeability. Initially when only vertical drilling technology was used, the hydrocarbon recovery from shale deposit was about 20% of initial gas in place. However development of horizontal drilling has proven to be effective for shale reservoirs for gas recovery. A horizontal well penetrates 2,000-6,000 feet or more of a formation, while a vertical well will only expose the thickness dimension of the reservoir. Horizontal drilling reduces the number of wells, thus reducing the impact on the surface environment. A typical shale-gas development will require six to eight wells/sq mile of horizontal wells, while at least 16 vertical wells would be required for the same potential production rate. In addition to simply having fewer well sites,

the horizontal well development will require fewer access roads, pipeline routes, and production facilities. Shale-gas hydraulic fracturing however consumes much higher primary water, about 4.5 million gallon of water per well.

Shale-gas potential: Shale-gas production activity is occurring in many places in USA but the primary current production is in Texas from the Barnett formation. Barnett shale production in the US has reached 4.0 Bcfd. Canada is also developing very large shale-gas in British Columbia, in addition to already producing coal bed methane projects. The European Union too has begun to think of shale gas as the high road to energy independence or else Europe will be left at Russia's unpredictable mercy.

Pakistan also has large potential to develop shale/tight gas. Recoverable reserves of this gas are estimated at 20 TCF. However a new protocol will need to be developed to provide investment incentive to gas producing companies.

Shale-gas production technology is on a steep development curve and further improvements will certainly enhance the economics of shale-gas. Drilling costs are clearly a function of formation depth, surface conditions and formation impacts on horizontal drilling techniques.

Projects in the Barnett development report combined drilling and completion costs ranging from \$3 to 5 million/well. However, projects in the Woodford of Oklahoma are reporting costs of \$7-8 million/well with extended horizontal laterals of up to 7,000ft.


Clearly the shale-gas industry has huge potential but at the same time has many uncertainties that remain to be resolved. The industry is in its infancy, however, having only become commercial in the last 10 years. Some projects report the ability to produce shale gas economically at prices as low as \$3-4/mmbtu. It appears that a sale price of shale gas into major trunk line in the USA at rate of \$7/MMBtu will provide a 15% internal rate of return with the following assumptions; Drilling and completion costs/well US\$5.0 million. Average production rate 3.7 mmcf/d/well, with well spacing of 100 acres and operating costs of \$3/mmbtu. These analyses include financing costs at 4.5%. Naturally the model is sensitive to average production rates, operating costs, and drilling costs.

This analysis would suggest that shale gas can be expected to enter the US and other world markets in large volumes with further improvement in technology and operating techniques and lower costs.

LNG has to compete with shale gas:

Entry of shale gas at competitive price in US market has dampened the entry of LNG in US. At this point new LNG production capacities installed at cost of billions of dollars in Qatar, Egypt, Algeria, Africa & Australia exceeds volumes currently committed to long term sales and purchase agreements, thus making surplus LNG available for export to other global markets. The ability to receive and consume additional LNG is primarily Europe. The US

The figure illustrates the difficult condition in which drilling for oil and gas will be carried out in near future in offshore areas of Gulf of Mexico, Brazil and East Africa.



,India, China, Japan and Korea are essentially fully supplied by their long-term sales and purchase agreements and have little appetite for additional LNG at current market pricing.

Pakistan can gain from the current status and acquire LNG at very competitive rates provided it works on fast track basis to establish LNG unloading, storage and re-gasification facility. The LNG receiving facility is capital intensive and in present condition will require investment of US\$ 600-700 million.

As of current year, the US had nine LNG import terminals operating with direct pipeline access in to the pipeline grid. Commissioning was under way on another offshore terminal, GDF Suez's Neptune in Massachusetts Bay; construction is nearing completion at Exxon Mobile's Golden Pass terminal in Texas along Sabine Pass. Canada Canaport in New Brunswick and Semptra Energy's Costa Azul in Mexico's Baja target most or some of their volumes for the US markets.

US LNG import terminals are largely underutilized. They have the capacity to import four to five 155,000-cu m LNG carriers/day, equivalent to 15 Bcfd of re-gasified LNG or 100 MT/year which is almost 50% of global LNG production capacity of the year 2009. However, the maximum LNG imported by US annually has not exceeded 5.0 Bcfd.

In 2009, natural gas consumption in China was about 7.3 Bcfd which is expected to grow to 18.0 Bcfd by 2020 and most of the increased demand will be met through import of LNG and from piped gas imported from Turkmenistan and Kazakhstan. In view of the present global gas glut, Russia is also eyeing to supply East Siberian gas to China through pipeline.

A regular contributor of this magazine, Mr. Mustafa Abdulla, GM (CP/Pipeline Integrity), SSGC is an engineer by profession and holds a Master's Degree from Manchester, UK. He has represented SSGC in several conferences abroad as Chairman and Speaker.

Positive Thinking

An optimist will find an opportunity in every difficulty, and a pessimist will see a difficulty in every opportunity. Opportunities are in plenty, and are flying around us from all directions. We have to open our eyes wide to see them and grab them.

Be assured that in every difficulty there is a hidden advantage. We have to find comfort in the available facilities and then try to improve upon them. If one simply dreams of a situation where no problems exist, I would say he is foolish. We live in a competitive world, full of challenges. Fight them all using a weapon called OPTIMISM. This is the right attitude to tide over a problem.

The difference between optimism and pessimism can be illustrated by a well known simple example. There are two persons who are thirsty and we offer them each half a glass of cool water:

A pessimist or a man with negative thinking will say, "How unfortunate I am! I have got only half a glass of water".

On the other hand, optimist or a positive thinker will say, "How fortunate I am! I have got a least half a glass of water." The situation and the facility available are the same to both of them. But look at the way they see things.

Discontent with the available facility or cursing one's own fate and waiting for a lucky break is not the correct approach to life. Work hard, making use of the available facilities and win over difficult situations. This is the right path to success.

Analyze any success story and you will see that luck plays only a very minor role. The basic ingredient of success is positive thinking.

By Khawaja Naveed, DM (IT)

Academic Achievements

Inshal Fatima d/o Sarfraz Ahmed, Telephone Technician, Telecom/ SCADA (HO) secured 91% in her Class II Examination from Occident Grammar School.



Bushra Sarfraz d/o Sarfraz Ahmed, Telephone Technician, Telecom/ SCADA (HO) secured 3rd position (98.30%) in her Junior Class Examination from Occident Grammar School.



Ifsah Siddidui d/o Khalil Ahmed, Supervisor, Driving, Land and Estate management, secured 2nd position (96.35%) in her Class III Examination from Escort Grammar School.



Awra Aysha d/o Ghulam Ali Shaikh, Engineer, CP-R.O. Hyderabad, secured 2nd position (96.80%) in her Class I Examination from Isra School.



Shafaque d/o Ghulam Ali Shaikh, Engineer, CP-R.O. Hyderabad, secured 1st position (99.4%) in her Class KG Junior Examination from Isra School.



Maha Baloch d/o Nazakat Ali Baloch, Zonal Manager, Billing Office City Zone, secured A plus grade and 1st position in her Prep Class Examination from D.A. Model High School.



Aisha Shaikh d/o Naik Mohammad Shaikh, Dy. Chief Engineer, CP-R.O. Hyderabad, secured 1st position (97.95%) in her Class II Examination from Anna English High School.



Kinza Imtiyaz d/o Naik Mohammad Shaikh, Dy. Chief Engineer, CP-R.O. Hyderabad, secured 2nd position (86%) in her Class I Examination from Public School, Sukkur.



Vraa Tahir Khan d/o Tahir Khan, Superintendent, Stores, Meter Plant, secured 1st position (96.32%) in her Class VIII Examination from Crescent Bahria Cadet School.



Aresha Ali d/o Ali Mohammad Memon, Engineer, CP-R.O. Hyderabad, secured 81% in her Class I Examination from The Educator.



Farhad Ali Memon s/o Ali Mohammad Memon, Engineer, CP-R.O. Hyderabad, secured A plus grade in his KG-1 Class Examination from The Educator.



Adeeva Rani d/o Amir Alam, Asst. Manager (HR-Ops) secured 3rd Position (Grade A+98.4%) in her Class Nursery Examination from Little Hearts Kindergarten Primary & Secondary School.



Tooba Salman d/o Salman A. Siddiqui, Dy. Chief Manager, CDD, secured 85.11% in her Class I Examination from Sunbeams Grammar School.



Ebaad Salman s/o Salman A. Siddiqui, Dy. Chief Manager, CDD, secured 80% in his Class III Examination from Sunbeams Grammar School.



Hareem Salman d/o Salman A. Siddiqui, Dy. Chief Manager, CDD, secured 2nd position (80.57%) in her Class IV Examination from Sunbeams Grammar School.



Muhammad Hasan Khan s/o Abul Hassan Suhriani, Sr. Engineer, Measurement Dept. secured 5th Position (87.3%) in his class V Examination from The Education Centre.



Khadija Hasan d/o Abul Hassan Suhriani, Sr. Engineer, Measurement Dept. secured 2nd Position (96.1%) in her Class VIII Examination from The Education Centre.



Pakeeza Sultan d/o Sultan Ahmed, Asst., SSGC Liaison Office, Islamabad passed her Class 4 Examination from Al-Quran Modern Educational Academy, Balakot attaining 94% marks.



فیلیس

www.ssgc.com.pk

سوئی سدرن گیس کمپنی کا اندرونی جریدہ

اسپیئر قومی اسمبلی نے بدین میں گیس کی فراہمی کا افتتاح کیا



اور خوشی میں کل 40,658 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھائی گئی۔
پراجیکٹ کی تکمیل پر تقریباً 119.706 ملین روپے کی لاگت آئی۔
مذکورہ منصوبے سے ننڈ واور خوشی کے 1,175 سے زائد صارفین کو
گیس کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔

دوسری طرف چوہدری دین محمد جان محمد بیرو کے 370 سے زائد
صارفین اس منصوبے سے مستفید ہو سکیں گے۔ جہاں 4" قطر کی 6.3
کلومیٹر سپلائی مین اور 13" اور 1" قطر کی ڈسٹری بیوشن مین لائن 1.5
اور 2.3 کلومیٹر پائپ لائن بچھائی گئی ہے۔ مذکورہ پائپ لائن کل
10,254 کلومیٹر طویل ہے۔ اس منصوبے کی لاگت کا تخمینہ
25.358 ملین روپے ہے۔

ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اسپیکر برائے قومی اسمبلی نے بدین میں ننڈ واور خوشی
اور ملحقہ دیہات چوہدری دین محمد جان محمد بیرو میں گیس کی فراہمی کا
افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب کا انعقاد 22 اپریل 2010 کو ہوا جس
میں ایس ایس جی سی کے افسران کے علاوہ مقامی شہریوں کی بڑی تعداد
نے شرکت کی۔ وزیر داخلہ سندھ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا بھی اس موقع پر
موجود تھے۔ ایس ایس جی سی کے اے جی ایم (ڈی) سندھ مشتاق
صدیقی اور پراجیکٹ ڈائریکٹر محمد ہاشم نے کمپنی کی نمائندگی کی۔
گیس پائپ لائن پراجیکٹ کے تحت علاقے میں 6" اور 4" قطر
کی 23,000 کلومیٹر سپلائی پائپ لائن مین اور 4"، 3" اور 1" قطر
کی 7,770 کلومیٹر ڈسٹری بیوشن پائپ لائن بچھائی گئی اس طرح ننڈ و



گیس چوری کے خلاف جہاد ہمارا اجتماعی قومی مفاد



- سینئرز کی جانب سے ایس ایس جی سی کے موقف کی حمایت
- میٹر پلانٹ کی ریکارڈ پروڈکشن
- مینجمنٹ کی سی این جی ایسوسی ایشن سے ملاقات
- خالد محمود کے المناک قتل پر شدید مذمت
- ملک برادری کا پیپلز لیبر یونین کے اعزاز میں عشاء



Sui Southern Gas Company Limited

مارچ 2010 میں 78,000 گیس میٹر کی تیاری

ایم ڈی کی جانب سے میٹر پلانٹ کی ریکارڈ پروڈکشن پر خراج تحسین



ایس ایس جی سی میٹر مینوفیکچرنگ پلانٹ نے مارچ 2010 میں 78,000 میٹر کی ریکارڈ پروڈکشن کی جس کے اعزاز میں 31 مارچ 2010 کو پلانٹ میں ایک پروڈکشن تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایس ایس جی سی کے ایم ڈی ڈاکٹر فیض اللہ عباسی نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت فرمائی۔ اس موقع پر کمپنی کی سینئر مینجمنٹ، میٹر پلانٹ ایگزیکٹوز، اسٹاف، ورکرز اور سی بی اے کے افسران نے شرکت کی۔ تقریب کا انعقاد اے ڈی جی ایم (ایم پی) مدنی صدیقی اور ان کی ٹیم نے کیا تھا۔

مارچ 2010 کے دوران Remus G-1.6 میٹر 25,000 اور Gallus 2000 G-4 میٹر 53,000 کی تعداد میں تیار کئے گئے۔ ریکارڈ پروڈکشن کے نتیجے میں میٹر پلانٹ ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ایم ڈی ایس ایس جی سی نے کہا کہ بطور انجینئر میں نے اس بات کا انداز لگایا ہے کہ پلانٹ میں ہر ایک منٹ میں پانچ میٹر تیار کئے گئے جو ہر لحاظ سے ایک بڑی کامیابی ہے۔ ایم ڈی نے نوے کی دہائی میں کمپنی کے میٹر پلانٹ میں اپنی یادداشت تازہ کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی میٹر میں کوئی خرابی آتی تھی میں فلورا پریئر سے رابطہ کرتا تھا جس کو درحقیقت خرابی کی اصل وجہ معلوم ہوتی تھی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جب میں امریکہ میں مقیم تھا اس وقت بھی جب کوئی مسئلہ آتا تھا میں اسمبلی ورکر سے رجوع کرتا تھا جسے میٹر کی تیاری کے دوران آنے والے مسئلے کا حل معلوم ہوتا تھا۔ کمپنی کے مینجنگ ڈائریکٹر نے فلورا ورکرز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ میٹر کو یاد سے زیادہ بہتر بنانے کیلئے اپنی تجاویز پیش کریں خاص طور پر جب PUG (Passing Unregistered Gas) میٹر میں ٹیمپرنگ کی کیسز سامنے آئے ہوں۔

اس سے قبل اے ڈی جی ایم (ایم پی) مدنی صدیقی نے سینئر مینجمنٹ کے تعاون کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میٹر کے مختلف پارٹس کا بروقت انتظام اور ورکرز کی موثر حوصلہ افزائی کے سبب میٹر پلانٹ نے مذکورہ ہدف حاصل کیا۔ ریاض اخترا اعوان چیئرمین، پیپلز لیبر یونین،



سی بی اے نے کہا کہ انتظامیہ اور ورکرز ملکر یو ایف جی کو کم کرنے کے لئے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ بعد ازاں میٹر پلانٹ فلورا انجینئر راشد، ورکر کلیم صدیقی، صادق اللہ اور چیئرمین پی ایل یو نے ایم ڈی کے ساتھ ایک کاٹ کراس کامیابی پر مسرت کا اظہار کیا۔

سید حسن نواب ڈی ایم ڈی (آپریشن اور پلاننگ)، راحت کمال صدیقی ایس جی ایم (ای ای ایس)، زوہیر صدیقی ایس جی ایم (ایم ایس)، سلیم احمد گل ایس جی ایم (ڈسٹری بیوشن)، زاہد ممتاز اے ایس جی ایم (کسٹمر سروسز) شوکت بلوچ اے ایس جی ایم (ٹرا سیمیشن)، شاہد بیج جعفری سی ایف او، یوسف جے انصاری کمپنی سکریٹری، ماجد ملک اے جی ایم (انچ آر)، عامر ممتاز خان اے جی ایم (ایڈمن سروسز) اور ڈاکٹر اعجاز احمد پی ایس او ٹو ایم ڈی نے بھی تقریب میں شرکت فرمائی۔



سینیٹرز کی جانب سے گیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے سوئی سدرن کے موقف کی حمایت



سے سندھ اور بلوچستان میں ہونے والی سیکڑ کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ کمپنی کی اعلیٰ انتظامیہ نے سینیٹرز کو لائن کے نقصانات اور گیس کی چوری سے متعلق موجودہ صورتحال اور اس پر قابو پانے کے لئے کئے جانے والے اقدامات سے بھی مکمل طور پر آگاہ کیا۔

کمپنی کی اعلیٰ انتظامیہ کے علاوہ اجلاس میں سینیٹر جہانگیر بدر، ڈاکٹر صفدر علی عباسی، ہارون خان، میر محبت خان مری، ڈاکٹر محمد اسماعیل بلیدی، پرویز راشد اور شاہد حسن نے شرکت کی۔ اس موقع پر سینیٹرز نے گیس کی ڈیمانڈ اور سپلائی کی بڑھتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لیا اور مینجمنٹ کی جانب سے پاکستان "مشعل" پراجیکٹ پر جلد از جلد عملدرآمد اور ٹرانس نیشنل پائپ لائنز کی تعمیر کے موقف کی بھرپور حمایت کی۔ سینیٹرز نے زور دیا کہ کمپنی سندھ اور بلوچستان میں گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لئے موثر منصوبوں پر کام جاری رکھے۔

سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین نے ایس ایس جی سی کی مینجمنٹ کو سندھ اور بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں کو گیس کی فراہمی کیلئے اپنے بھرپور تعاون کا یقین بھی دلایا۔

ایس ایس جی سی کی مینجمنٹ نے کمپنی کے انفراسٹرکچر اور آپریشنز کے بارے میں سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کو ایک اجلاس میں جامع پریزنٹیشن دی۔ سینیٹرز نے 27 اپریل 2010 کو کمپنی ہیڈ آفس کا تفصیلی دورہ کیا۔ اجلاس کی صدارت اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین صابر علی بلوچ نے کی۔ ایس ایس جی سی کے ایم ڈی ڈاکٹر فیض اللہ عباسی اور عظیم اقبال صدیقی ڈی ایم ڈی (کسٹمر اینڈ فنانشل سروسز) نے سینیٹرز کو موجودہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹری بیوشن کے منصوبوں، سپلائی سروسز اور کیلنگری کے لحاظ

ادارتی ٹیم

ایس نسرین حسین

سلمان احمد صدیقی

سید عمران احمد

کوآرڈینیٹر: عزیز احمد خان

فوٹو گرافر: ابوالکلام

سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ

کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ

ساتویں منزل، ایس ایس جی سی ہاؤس، بلاک 14،

گلشن اقبال، کراچی۔ 75300

پی اے بی ایکس: 021-9902-1771-5

1791, 1720, 1739

فیکس: 9923-1622

ای میل: flame@ssgc.com.pk

ویب سائٹ: www.ssgc.com.pk



ایم ڈی کی موجودگی میں پروموشن لیٹرز کی تقسیم

12 اپریل 2010 کو ایس ایس جی سی کے بورڈ روم میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈپٹی جنرل میجر کے عہدوں پر ترقی پانے والے 22 افسران کو ایم ڈی ڈاکٹر فیض اللہ عباسی کی موجودگی میں پروموشن لیٹرز دیئے گئے۔ متعلقہ ڈویژنل اور ڈپارٹمنٹل ہیڈز نے اپنے ایگزیکٹوز کو لیٹرز دیئے۔

اس سے قبل ایم ڈی نے نئے ڈی جی ایگزیکٹوز کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کی محنت کا ثمر ہے جو جس کا مظاہرہ آپ نے اپنے اہداف اور سائنس کو پورا کرنے کے لئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پروموشن آپ کے لئے یو ایف جی کے خاتمے کے لئے مزید محنت اور ترغیب کا باعث بنے گا۔ جبکہ دیگر ٹیم ممبران کے لئے بھی باعث ترغیب ہوگا۔



سوئی سدرن اور تجارتی تنظیموں کے مابین اہم فیصلوں کے لئے اجلاس



ایس جی سی اور چیئر مین سی این جی پرمٹل ایک کمیٹی قائم کی گئی جو اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کس دن سی این جی اسٹیشن کو گیس کی فراہمی بند رہے گی جبکہ دوسری کمیٹی جو کہ رزاق ہاشم پراچہ چیئر مین KITE، ٹارشیٹانی، اور ڈی ایم ڈی ایس ایس جی سی پرمٹل ہوگی جو کہ ان انڈسٹریز کی فہرست تیار کرے گی جن کی گیس ایک دن کے لئے منقطع کی جائے گی۔

اجلاس کے اختتام پر حکومت سندھ کے مشیر اور ایم ڈی ایس ایس جی سی نے کہا کہ مذکورہ فیصلے قومی مفاد اور شمالی صوبوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیلئے کئے گئے ہیں۔ ایم ڈی، ایس ایس جی سی نے اس امید کا اظہار کیا کہ انڈسٹریز اس مشکل وقت میں ایس ایس جی سی کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گی۔

اجلاس کے شرکاء میں عبدالماجد حاجی محمد، صدر KCCI، سلیم پارکھ چیئر مین سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری، رزاق ہاشم پراچہ، چیئر مین KATI، زین بشیر چیئر مین LATI، عبدالسیع خان، چیئر مین CNG ڈیلرز ایسوسی ایشن آف پاکستان، ملک خدا بخش چیئر مین CNG اسٹیشنرز اور ایسوسی ایشن، جنید اسماعیل ملڈا، چیئر مین آل پاکستان CNG ایسوسی ایشن اور سائٹ ایسوسی ایشن کے سابق صدر ٹارشیٹانی، ایم اے جبار اور ہارون فاروقی نے شرکت کی۔

موجودہ قومی توانائی کے بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے ایس ایس جی سی اور سندھ بولوچستان کے نمایاں تجارتی اداروں بشمول FPCCI، KCCI، SITE، KATI، APTMA اور اہم CNG ایسوسی ایشنز کے مابین ایک اہم ملاقات 26 اپریل 2010 کو ہوئی جس میں سی این جی اسٹیشنرز اور انڈسٹریز (جو چوبیس گھنٹے کام نہ کرتی ہوں) کو ہفتہ وار ایک دن کے لئے گیس کی ترسیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس پر عملدرآمد کے لئے کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ اجلاس کی صدارت ایس ایس جی سی کے ایم ڈی فیض اللہ عباسی نے کی۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر جناب زیر مرقی والا نے ایسوسی ایشن کے سربراہوں اور سینئر اراکین کو گذشتہ ہفتے انرجی سٹ میں کئے جانے والے فیصلوں سے آگاہ کیا جس کی صدارت وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی نے کی تھی۔

ملک کے شمالی علاقوں میں گیس کی شدید قلت کے سبب ہونے والی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا حوالہ دیتے ہوئے جناب زیر مرقی والا نے اجلاس میں موجود تجارتی تنظیموں سے درخواست کی کہ ایک دن کے لئے سی این جی اسٹیشنز بند کر کے 10 ایم ایم سی ایف ڈی اور ایک دن کے لئے انڈسٹریز کو گیس کی فراہمی منقطع کر کے 40 ایم ایم سی ایف ڈی گیس کی بچت کرنے کے لئے ایس ایس جی سی اور حکومت سے بھرپور تعاون کریں۔ اس سلسلے میں تمام تجارتی تنظیموں کے نمائندوں سے تجاویز طلب کی گئیں جس کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ 28 اپریل سے لوڈ شیڈنگ پر عملدرآمد شروع کیا جائے گا۔

ایس ایس جی سی کی میٹنگ نے اجلاس کے شرکاء کو اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ بچائی جانے والی گیس سندھ کے پاور سیکٹر (کے ای ایس سی، جامشورو پاور پلانٹ اور کوٹری پاور اسٹیشن) کو ترسیل کردی جائے گی جس سے کراچی اور دہلی سندھ میں پاور سپلائی کو بہتر بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ فریلاز ریکٹر میں پہلے ہی گیس کے استعمال میں 20 فیصد کمی واقع ہوئی ہے۔ اس موقع پر ڈی ایم ڈی، ایس

سوئی سدرن گیس آفیسرز ایسوسی ایشن کے مرکزی معزز عہدیداران کا ریجنل دفتر حیدرآباد کا دورہ

اس شاندار تقریب میں ڈاکٹر اعجاز احمد شہاب الدین نے خطاب کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کے کارناموں پر روشنی ڈالی جس کا ثبوت تنخواہ میں حالیہ اضافہ ہے۔ جو کہ موجودہ جمہوری حکومت کا افسران کیلئے یادگار تحفہ سمجھا جائے گا۔ محترم صدر اور جنرل سکرٹری صاحبان نے افسروں کا شکریہ ادا کیا اور آئندہ اس طرح اتحاد اور تعاون کا مظاہرہ کیا گیا تو جائز شکایت اور تکالیف کو بھی منظور کرانے کے لئے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔

اکرم شیخ اور دوسرے عہدیداران شامل تھے۔ اپنے محترم رہنماؤں کے استقبال میں مختلف ڈپارٹمنٹ کے افسران بھرپور شرکت کی اور پروگرام کو کامیاب بنایا۔ جبکہ سید بیر محمد شاہ، انصاف علی دقتی، اور ایس عباسی، بشیر احمد سومرو، دانش ملک بھی پیش پیش رہے۔ اس سلسلے میں استقبال بیزنس می آویز اس کر دیئے گئے تھے۔ SSGC آفیسرز ایسوسی ایشن کے معزز عہدیداران کو ایک بڑے جلوس کی شکل میں کینٹین حال میں لایا گیا جہاں مہمانوں کو راجپوتی انداز میں اجرکوں اور سندھی ٹوپی کے تحائف پیش کئے گئے۔

سوئی سدرن گیس آفیسرز ایسوسی ایشن کے مرکزی معزز عہدیداران نے مورخہ 02 اپریل 2010 کو ریجنل دفتر حیدرآباد کا دورہ کیا تو افسران نے نہایت پر تپاک انداز میں ان کا استقبال کیا۔ سندھی ڈھول اور شرنائی کی خوبصورت سریلی دھون میں جب افسران نے اپنے نمائندوں کو خوش آمدید، بھلی کری آیا، جی آ یا نوں، پیخیرا غلے اور Welcome کرتے ہوئے پھولوں کے ہار پہنائے تو ماحول نہایت خوشگوار دیکھنے میں آیا۔ ایسوسی ایشن کے نمائندوں میں جناب ڈاکٹر اعجاز احمد (صدر)، جناب شہاب الدین (جنرل سکرٹری) دیگر نمائندوں میں نارائن داس، محمد

ملک برادری کا پیپلز لیبر یونین کے اعزاز میں عشاء



15 اپریل بروز پیر کو ملک برادری کا پیپلز لیبر یونین کے اعزاز میں عشاء نے تاریخی چارٹرڈ آف ڈیمانڈ جو کہ بینظیر چارٹرڈ تھا منظور کروانے پر ملک برادری نے پیپلز لیبر یونین کے عہدیداران اور چارٹرڈ کمیٹی کے ارکان کو عشاء دیا اور انکی روایتی اعزاز (پگ) کو تمام ارکان کو پہنایا گیا۔ پیپلز لیبر یونین کے صدر جناب اعجاز بلوچ صاحب کو اعزازی پگ ملک ظفر اقبال نے پہنائی، چیئرمین اختر اعوان صاحب کو محمد سرفراز جبکہ جنرل سیکری رضوان احمد ملح کو ملک طارق محمود نے پگ پہنائی۔ آخر میں پیپلز لیبر یونین کے صدر جناب اعجاز احمد بلوچ صاحب نے ملک غلام مرتضیٰ کو اعزازی پگ پہنائی۔ جنرل سیکری رضوان احمد ملح صاحب نے ملک برادری کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جس طرح ملک برادری نے اپنی روایتی



اعزاز سے نوازا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین ریاض اختر اعوان صاحب نے بھی انتہائی شاندار الفاظ میں ملک برادری کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں پیپلز لیبر یونین کے صدر اعجاز احمد بلوچ صاحب نے ملک برادری کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ جو عزت ملک برادری نے پیپلز لیبر یونین CBA کو دی ہے اسے کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ انہوں نے سوئی سدرن گیس کمپنی میں یو ایف جی کو ختم کرنے پر روشنی ڈالی اور کہا کہ اس ادارے کو مضبوط بنا کر اور مزدور برادری کے حقوق دلا کر انکی عزت کے شعلے بھی اسی طرح اونچے کریں گے۔ آخر میں ملک طارق محمود نے پیپلز لیبر یونین کے تمام عہدیداروں اور کمیٹی کے ارکان کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی تمام ملک برادری کا بھی شکریہ ادا کیا۔

سائٹ کے محنت کشوں کا پیپلز لیبر یونین (سی بی اے) کے اعزاز میں استقبالیہ و اعجاز بلوچ کی رسم تاج پوشی



ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ پیپلز لیبر یونین ادارے کے محنت کشوں کے لئے بہتر سے بہتر مراعات کے حصول کی جدوجہد جاری رکھے گی۔ اس خوبصورت تقریب کی نظامت ملک مرتضیٰ نے کی جو وقتاً فوقتاً اپنے شعروں سے محفل کو گرماتے رہے۔ تقریب کے آخر میں فہیم بلوچ نے اختتامی کلمات ادا کرتے ہوئے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح یہ خوبصورت تقریب اختتام پزیر ہوئی۔

تحریر: سعید احمد خان (واکس پریذیڈنٹ پیپلز لیبر یونین)

اختر اعوان خطاب کے لئے کھڑے ہوئے تو تمام حاضرین نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ چیئرمین ریاض اختر اعوان نے بلند آہنگ کے ساتھ ادارے میں ہر قسم کی کرپشن کے خاتمے کے لئے جدوجہد پر زور دیا تاکہ ادارے کو منافع بخش بنایا جاسکے۔ نیز بنظر اشاک آپشن اسکیم کے تحت محنت کشوں کو ملنے والے فوائد پر سیر حاصل تقریری کی۔

جی ایم سائٹ جناب شعیب وارثی نے اپنے خطاب میں یونین کی کارکردگی کو سراہا اور یو ایف جی کے سلسلے میں سی بی اے یونین کے کردار اور اس کی اہمیت پر زور دیا۔ جب صدر یونین جناب اعجاز بلوچ کو ڈاکس پر بلایا گیا تو پنڈال تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھا۔ تقریب میں اس وقت بھر پور جوش پیدا ہو گیا جب اس بات کا اعلان کیا گیا کہ صدر کی خدمات کے پیش نظر سائٹ کے محنت کشوں نے ان کی تاج پوشی کا فیصلہ کیا ہے۔ تاج پوشی کے بعد محنت کشوں نے اصرار کیا کہ صدر صاحب تاج پہن کر تقریب سے خطاب کریں۔ تالیوں کی گونج میں خوبصورت استقبالیہ تقریب سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے جناب اعجاز بلوچ نے ادارے کی معاشی حالت کو نظر میں رکھتے ہوئے یو ایف جی کو کنٹرول کرنے اور اس کے خلاف جنگی بنیادوں پر لڑنے کے عزم کا اظہار کیا۔ نیز کمپنی کے وسائل کے غلط استعمال کو روکنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے سائٹ کے محنت کشوں کی جانب سے اس خوبصورت اظہار محبت پر ان کا شکریہ ادا کرتے

15 اپریل 2010 کا دن سائٹ کے محنت کشوں کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ سی بی اے یونین کی جانب سے بے نظیر چارٹرڈ کرانے کے بعد سائٹ کے محنت کشوں کی دلی آرزو تھی کہ پیپلز لیبر یونین کی قیادت سے اظہار تشکر اور دلی جذبات کا اظہار کیا جائے۔ تقریب میں اس وقت بھر پور جوش پیدا ہو گیا جب سائٹ کی معروف شخصیت نصیر خان اور ان کے ساتھیوں نے پیپلز لیبر یونین میں شمولیت کا اعلان کیا۔ چیئرمین ریاض اختر اعوان اور جنرل سکریٹری رضوان احمد ملاح کو ٹوپی اور اجرک کا تحفہ پیش کیا گیا۔ اور اس کے بعد تمام قائدین کو دیگر تحائف بھی پیش کئے گئے۔

نائب صدر سعید احمد خان نے یونین اور اسکے صدر جناب اعجاز بلوچ کی خدمات کے پیش نظر ون ڈے سٹری پر گفتگو کی حاضرین نے بھرپور طور پر ون ڈے سٹری کی ادائیگی کی حمایت کی۔ سینئر رہنما اور ورکرز یونین کے جناب امین بلوچ نے اپنی تقریر میں صدر کی خدمات کو سراہا اور اعجاز بلوچ کو ون ڈے سٹری کی ادائیگی کی حمایت کی۔ سینئر نائب صدر اسلم راجپوت نے اتحاد کی تلقین کرتے ہوئے تمام محنت کشوں سے متحدر ہونے کی اپیل کی۔



ڈپٹی جنرل سکریٹری دلاور خان بگلش نے یونین کی کارکردگی پر نظر ڈالتے ہوئے نئے شامل ہونے والے محنت کشوں کو خوش آمدید کہا۔ اسی دوران جی ایم سائٹ محترم شعیب وارثی صاحب اور دیگر سینئر افسران بھی تقریب میں شامل ہو گئے۔ حاضرین نے ان کا بھرپور تالیوں سے استقبال کیا۔ جنرل سکریٹری رضوان احمد ملاح نے تالیوں کی گونج میں خطاب کرتے چارٹرف ڈیمانڈ کی نمایاں خصوصیات پر بات کی۔ جب چیئرمین ریاض



اسپيڪر قومي اسيمبلي بدين ۾ گيس جي فراهمي جو افتتاح ڪيو



ڊاڪٽر فهميده مرزا اسپيڪر قومي اسيمبلي بدين ۾ نندو ۽ کوسڪي ۽ ڀرپاسي وارن ڳوٺن چوڌري دين محمد ۽ خان محمد ويڙهو ۾ گيس جي فراهمي جو افتتاح ڪيو. افتتاحي تقريب جو انعقاد 22 اپريل 2010 تي ٿيو. جنهن ۾ ايس ايس جي سي جي آفيسرن کانسواءِ مقامي شهرين جي وڏي انگ شرڪت ڪئي. سنڌ جي گهرو وزير ۽ قومي اسيمبلي جي اسپيڪر جي وڙ ڊاڪٽر ذوالفقار مرزا به ان موقعي تي شريڪ ٿيو. ايس ايس جي سي جي اي جي ايم (ڊي) سنڌ مشتاق صديقي ۽ پراجيڪٽ ڊائريڪٽر محمد هاشم ايس ايس جي سي جي نمائندگي ڪئي.

گيس پاڻپ پراجيڪٽ جي تحت علائقي ۾ 6" ۽ 4" قطر جي 23,000 ڪلوميٽر جي مين سپلائي پائپ لائين ۽ 4" 3" ۽ 1" قطر جي 7,770 ڪلوميٽر ڊسٽري بيوشن پائپ لائين وڇائي وئي. اهڙي ريت نندو ۽ کوسڪي ۾ ڪل 40,685 ڪلوميٽر ڊگهي پائپ لائين وڇائي وئي. پراجيڪٽ جي پڄاڻي تي اٽڪل 119.406 ملين روپين جي لاڳت آئي. ڄاڻايل منصوبي سان نندو ۽ کوسڪي جي 1175 کان وڌيڪ صارفين کي گيس جي فراهمي ممڪن ٿي سگهندي.

ڀي پاسي چوڌري دين محمد ۽ جان محمد ويڙهو جا 370 کان وڌيڪ صارفين ان منصوبي سان مستفيد ٿي سگهندا. جتي 4" قطر جي 6.3 ڪلوميٽر جي مين سپلائي ۽ 3" ۽ 1" قطر جي ڊسٽري بيوشن مين لائين 1.5 ۽ 2.3 ڪلوميٽر پائپ لائين وڇائي وئي آهي. ڄاڻايل پائپ لائين سپلائي 10,254 ڪلوميٽر ڊگهي آهي هن منصوبي جي لاڳت جو تخمينو 25.358 ملين روپيا آهي.

سينيٽرن پاران گيس جي فراهمي کي يقيني بنائڻ لاءِ ايس ايس جي سي جي موقف جي حمايت

ڪمپني جي اعليٰ انتظاميه کانسواءِ اجلاس ۾ سينيٽر جهانگير بدر، ڊاڪٽر صدر علي عباسي، هارون خان، مير محبت خان مري، ڊاڪٽر محمد اسماعيل بليدي، پرويز راشد ۽ شاهد حسن شرڪت ڪئي. ان موقعي تي سينيٽرز گيس جي ڊمانڊ ۽ سپلائي جي وڌندڙ صورتحال جو نوٽيس ورتو ۽ مئنجمينٽ پاران پاڪستان "مشعل" پراجيڪٽ تي ترت عملدرآمد ۾ ٽرانس نيشنل پائپ لائن جي تعمير جي موقف جي پرپور حمايت ڪئي. سينيٽرن زور ڏنو ته ڪمپني سنڌ ۽ بلوچستان ۾ گيس جي گهٽتائي کي پورو ڪرڻ لاءِ مؤثر منصوبن تي ڪم جاري رکي. سينيٽرن جي اسٽينڊنگ ڪميٽي جي چيئرمين ايس ايس جي سي جي مئنجمينٽ کي سنڌ ۽ بلوچستان جي ڏورانهن علائقن کي گيس جي فراهمي لاءِ پنهنجي پرپور سهڪار جو يقين به ڏياريو.



ايس ايس جي مئنجمينٽ ڪمپني جي انفراسٽرڪچر ۽ آپريشنز جي باري ۾ سينيٽ جي اسٽينڊنگ ڪميٽي پيٽروليم ۽ قدرتي وسيلن بابت ڪي هڪ اجلاس ۾ جامع پريزيٽيشن ڏني. سينيٽرن 27 اپريل 2010 تي ڪمپني هيڊ آفيس جو تفصيلي دورو ڪيو. اجلاس جي صدارت اسٽينڊنگ ڪميٽي جي چيئرمين صابر علي بلوچ ڪئي. ايس ايس جي سي جي ايم ڊي ڊاڪٽر فيض الله عباسي ۽ عظيم اقبال صديقي ڊي ايم ڊي (ڪسٽمر اينڊ فنانشل سروسز) سينيٽرز کي موجوده ٽرانسميشن ۽ ڊسٽري بيوشن جي منصوبن، سپلائي سروسز ڪيٽيگري جي لحاظ کان سنڌ ۽ بلوچستان ۾ ٿيندڙ سيلز جي باري ۾ ڄاڻ فراهم ڪئي. ڪمپني جي اعليٰ انتظاميه سينيٽرن کي لائين جي نقصانن ۽ گيس جي چوري بابت موجوده صورتحال ۽ ان کي قابو ڪرڻ لاءِ ڪنيل قدم کان به مڪمل طور تي آگاهه ڪيو.



خالد محمود کے المناک قتل پر شدید مذمت

15 اپریل 2010 کی صبح دفتر آتے ہی ایک انتہائی المناک اور غم انگیز خبر ہم سب کی منتظر تھی۔ خالد محمود ملک کی دہشت گردوں کے ہاتھوں فائرنگ کے ذریعے ہلاکت پر دفتر میں ہر فرد غم و اندوہ کے سمندر میں ڈوب گیا۔ کوئٹہ میں متعین کسٹمرز ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کے طور پر ہمارا ان سے بڑا گہرا اور قریبی رابطہ رہا ہے۔ قدرتی گیس کے زیاں کو روکنے، گیس چوری کے خلاف اقدامات اور میڈیا کے ذریعے چلائی جانے والی مہمات میں کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا جرنل مینیجر بلوچستان ریجن کے توسط سے خالد محمود کے ساتھ براہ راست رابطہ رہتا تھا کیونکہ جی ایم کی جانب سے ہمیشہ انہیں ہمارے ساتھ رابطہ کا مقرر کیا جاتا تھا۔

خالد بھائی کسٹمرز ریلیشنز کے ذمہ دار افسر کے طور پر ایک طرف صارفین کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے تو دوسری جانب کوئٹہ کے صحافی حضرات کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے اور دوستانہ تعلقات تھے۔ سردیوں کے مہینوں میں سی سی ڈی کی جانب سے چلائی کی جانے والی آگاہی کی مہم کے دوران کوئٹہ میں ہر سال ایک میڈیا کانفرنس بھی منعقد کی جاتی ہے۔ ایسی کانفرنسوں میں خالد بھائی صحافیوں کو جمع کرنے کے سلسلے میں میری سب سے زیادہ مدد کرتے تھے۔ میرا ذاتی مشاہدہ تھا کہ کوئٹہ کے صحافیوں



حوالے سے اتنے مہربان، ہمدرد اور پر جوش رفیق کار کا ملنا مشکل امر ہوگا۔

ہم ایک بہت ہی اچھے دوست سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان کی شہادت سے ان کے اہل خانہ کو جس ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو پورا فرمائے اور ان کی بیوہ اور بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین

تحریر: عنایت اللہ اسماعیل۔ ڈی سی ایم۔ کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ

کے ساتھ ان کا بڑا قریبی اور دوستانہ رشتہ تھا۔ میرا جب بھی اپنی مختلف ذمہ داریوں کے سلسلے میں کوئٹہ جانا ہوا تو ہمارا ٹھکانہ خالد بھائی ہی کے کمرے میں رہتا تھا۔ ان کے کمرے کو میں اور سی سی ڈی کے دوسرے ساتھی اپنے میڈیا روم میں تبدیل کر دیتے تھے اور وہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ اپنا ٹیلی فون، اپنی میز بلکہ پورا کمرہ ہی ہمارے حوالے کر دیتے تھے۔ اس دوران صارفین کی ان کے پاس مستقل آمد و رفت بھی جاری رہتی تھی جو اپنے گیس بلوں کے حوالے سے مختلف طرح کی شکایات لے کر ان کے پاس آتے تھے۔ خالد بھائی اپنے تمام تر دفتری امور کی انجام دہی کیساتھ بڑی خوش اسلوبی اور شگفتہ مزاجی کے ساتھ ان صارفین کے مسائل بھی سلجھاتے رہے تھے۔

خالد بھائی ایک نہایت محنتی، دیانتدار، سنجیدہ ہوئے اور ادارے کے ساتھ دلی وابستگی رکھنے والے افسر تھے۔ ان کی المناک شہادت سے نہ صرف کوئٹہ آفس میں ایک غلا پیدا ہوا ہے جو شاید کبھی بھی پر نہ ہو سکے گا بلکہ ہم سی سی ڈی کے ساتھیوں کو بھی اب کوئٹہ میں اپنی مختلف مہمات چلانے کے

Employees protest Senior SSGC official gunned down CM orders immediate arrest of culprits

By Our Staff Writer
QUETTA: A senior official of the Sui Southern Gas Company (SSGC) Malik Khalid Awan was shot dead while his driver was injured by some unknown armed assailants in Satellite Town on Monday morning. The police said Chief Manager Billing-SSGC-Khalid Awan was riding in his official SSGC's vehicle to the office from his residence located in the Satellite Town at around 08:15 AM when some unknown armed men appeared on the scene on a motorbike and resorted to an indiscriminate firing targeting the vehicle. As a result Khalid Awan and his driver, Naseem, sustained multiple bullet injuries. While

Continued on Page 2



QUETTA: Dead body of Chief Manager Billing SSGC Khalid Awan, who is killed in the target killing incident in Satellite Town. B.T Photo

کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ جاری سوئی سڈون کا چیف مینیجر قتل ڈراما تیز زخمی

خالد محمود فٹ پیسے نکلے تو گول مسجد کے نزدیک موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی

کوئٹہ (آن لائن) کوئٹہ کے علاقے سلامت ٹاؤن کے چیف مینیجر بلنگ کے ڈرائیور کو ٹیٹا ہارٹ ٹک کے واقعہ میں باقاعدہ موٹر سائیکل شہید کر دی گئی۔ واقعہ کے خلاف پیس کمیٹی کے سواروں نے فائرنگ کر کے سوئی سڈون کیس کھلی



کوئٹہ ہارٹ ٹک ہسپتال میں خالد محمود کی قتل پر رونا دہا ہے۔

خالد محمود کے المناک قتل پر مختلف اخبارات میں شائع ہونے والی خبریں

کوئٹہ میں سوئی سڈون کیس کھلی کچن کا چیف مینیجر قتل

کوئٹہ (آن لائن) کوئٹہ کے علاقے سلامت ٹاؤن کے چیف مینیجر بلنگ کے ڈرائیور کو ٹیٹا ہارٹ ٹک کے واقعہ میں باقاعدہ موٹر سائیکل شہید کر دی گئی۔ واقعہ کے خلاف پیس کمیٹی کے سواروں نے فائرنگ کر کے سوئی سڈون کیس کھلی

کوئٹہ میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کی کارروائی کے دوران جناب خالد محمود سی ایم کے بہیمانہ قتل پر ریجنل آفس حیدرآباد میں 6 اپریل 2010 کو بعد نماز ظہر مرحوم کی غائبانہ نماز جنازہ اور ایصال ثواب کی دعا کی گئی۔ اس سوگ کے موقع پر کالی پٹیاں باندھ کر اور مذمتی بینراٹھا کر ایک احتجاج ریکارڈ کرایا گیا جس کو میڈیا کے مختلف چینلوں نے بھی رپورٹ کیا۔ اس احتجاج میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف اور قاتلوں کی گرفتاری کے لئے نعرہ بازی کرتے ہوئے سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اس احتجاج میں افسران اور اسٹاف کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خالد محمود کے لواحقین سے تعزیت کی۔

تحریر: منظور حسین کارلو

مینیجر (C.P) حیدرآباد

پائپ لائين تي ڪوٽنگ جي ضرورت ۽ اهميت

اها آگاهي ڏجي ٿي ته C.P سسٽم ڪوٽيڊ پائپ لائين جي اهڙن نقصان زده حصن کي حفاظت (Protection) مهيا ڪرڻ جي لاءِ استعمال ڪئي وڃي ٿي جيڪي زمين جي اثرات يا ٻي ڪنهن سبب جي ڪري وقتن فوقتن پيدا ٿيندا رهن ٿا ان حوالي سان مختصرن اهو چئجي ته اسٽيل پائپ لائين کي زنگ کان بچائڻ لاءِ پهريون ۽ خاص عمل بهترين ڪوٽنگ آهي ۽ نقصان زده حصن کي محفوظ رکڻ لاءِ C.P جي ضرورت پوي ٿي. هڪ اندازي موجب C.P وڌ کان وڌ 10 سيڪڙو خراب ڪوٽنگ واري پائپ لائين جي لاءِ مناسب سمجهي وڃي ٿي. ان کان وڌيڪ نقصان زده ڪوٽنگ کي سروي ذريعي ڳولڻ بعد مرمت ڪيو وڃي ٿو ته جيئن C.P لاءِ گهربل ڪرنٽ جي ضرورت کي محدود رکيو وڃي.

وارو ٿئي ٿو، ان لاءِ پائپ لائين کي Sand Blast يا گرت بلاسٽ Grit Blast وسيلي صاف ڪيو ويندو آهي جنهن ۾ طاقتور ايئر ڪمپريسر جي مدد سان هڪ مخصوص طريقيڪار وسيلي يا وري گرت کي هوا جي زور سان تنگ نالي Nozzle مان گذاريو وڃي ٿي جڏهن هوا ۽ ريت جو محلول تمام تيز رفتاري سان زنگ لڳل پائپ تي بندوق جي چيرن جيان لڳندو آهي ته پائپ جي سطح تي موجود سخت کان سخت زنگ به لهي وڃي ٿو ۽ پائپ جي سطح صاف ۽ خردري ٿيڻ ڪري ڪوٽنگ کي پائپ لائين سان گڏ مضبوطي سان جهلڻ ۾ مدد ڏي ٿي. سينڊ بلاسٽ Sand Blast يا گرت بلاسٽ ۾ سليڪا واري ۽ ٽامي جا مناسب گهريل تقريبن کنڊ جي ڊائي برابر ماپ جا ذره استعمال ڪيا ويندا آهن. پائپ لائين تي ڪوٽنگ

ڪيٿوڊڪ پروٽيڪشن ڊسٽريبيوشن (سنڌ) حيدرآباد جي نگراني ۽ رٿابندي هيٺ مختلف ڊايا (قطر) جي گيس پائپ لائين کي زمين ۾ پورڻ کان پهرين زنگ کان بچاءُ لاءِ ڪوٽنگ ڪرائڻ ضروري سمجهيو وڃي ٿو ته جيئن بغير ضايع ٿيڻ جي گيس کي محترم صارفين تائين پهچايو وڃي. هتي اهو ياد رکڻ ضروري آهي ته پائپ لائين کي ڪوٽنگ ڪرائڻ وارو عمل C.P سسٽم جواهر جز ۽ مددگار سمجهيو وڃي ٿو. سنڌ ۾ پيدا ٿيندڙ گئس موافق يعني صاف گيس هوندي آهي تنهنڪري انهي ۾ پائپ لائين جي اندروني سطح کي زنگ آلوده ڪرڻ وارا عنصر سلفر (ڪاربان مونو آڪسائيڊ) نه هئڻ جي برابر موجود آهن. جڏهن ته زير زمين گئس پائپ لائين کي باهري سطح تي زنگ لڳڻ جا امڪان وڌ کان وڌ رهن ٿا تنهنڪري اهو لازمي آهي ته پائپ لائين جي باهري سطح تي تمام سٺي طريقي سان ڪوٽنگ ڪرائي وڃي ڇو جو اهو زمين ۾ پائپ لائين وچ ۾ حفاظتي ڍال وانگر بچاءُ جو ڪم ڪري ٿي. سانهي لاءِ اهو ڪم اسان جي C.P انجنيئرن جي زير نگراني ڪاڊيجي ڪوٽنگ يارڊ ۾ هلي رهيو آهي.

SSGC ۾ پائپ لائين تي هيستائين جيڪا ڪوٽنگ ڪرائي وڃي ٿي تنهن ۾ ڪولٽار (Coal tar) (Asphalt)، ٽيپ ڪوٽنگ ۽ LPE 3 ٽن تنهن واري پولي اٿيلين (Polyethylene) جي ڪوٽنگ شامل آهي. جيڪا فيڪٽري ۾ آٽوميٽڪ مشينن سان اعليٰ معيار مطابق اسٽيل پائپ تي لڳائي وڃي ٿي. ڪنهن به طرح ڪوٽنگ ڪرڻ واري شروعاتي عمل ۾ پائپ جي سطح کي لازم مڪمل طور صاف ڪرڻ ضروري آهي ته جيئن زنگ، مٽي، چڪائي يعني تيل، گريس وغيره ۽ ٻي ڪا به باهري شيءِ پائپ جي سطح تي باقي نه رهي صفائي کان پوءِ پرائمڙ لڳايو ويندو آهي جيڪو ڪوٽنگ مٽيريل کي پائپ لائين سان چڱي طرح چنبڙي وڃڻ ۾ مدد ڏيندو آهي جنهن کانپوءِ ضرورت مطابق مٽي ڄاڻايل ڪوٽنگ سسٽم ڪو به هڪ مخصوص طريقو ڪار سان پائپ لائين تي لڳايو وڃي ٿو ته جيئن ڪوٽنگ زير زمين پيدا ٿيندڙ مختلف قسم جا دٻاءُ ۽ ماحولياتي اثر برداشت ڪري سگهي. فيڪٽري ڪوٽيڊ پائپ جي ويلڊ جوائنٽ تي هيٺ شرنڪ سليو (Heat Shrink Sleeve) استعمال ٿيندا آهن. جيڪي ماحولياتي اثر برداشت ڪري سگهي. فيڪٽري ڪوٽيڊ پائپ جي ويلڊ هڪ مخصوص مٽيريل مان تيار ٿيل هوندا آهن جن کي پائپ لائين ويلڊ جوائنٽ تي صفائي ۽ پرائمڙ لڳائڻ کان پوءِ ڍرو ويڙهي باهر جي شعلي جي تپش وسيلي سسائي ڪري پائپ لائين تي مضبوطيءَ سان چنبڙايو وڃي ٿو. مٽي ڄاڻايل جيڪي به ڪوٽنگ سسٽم آهن تن ۾ پائپ لائين جي صفائي وارو عنصر نهايت بنيادي اهميت



هن سلسلي ۾ ڪوٽنگ جي سروي ۽ مرمت بابت وڌيڪ احوال انشاءِ الله آئنده جي آرٽيڪل ۾ بيان ڪيا ويندا ته جيئن وڌ کان وڌ دوستن کي آگاهي ٿئي. هي مفيد معلومات محترم محمد سليم منگي صاحب چيف انجنيئر (C.P) ڊسٽريبيوشن سنڌ جي تعاون سان سوئي سدرن گيس ڪمپني جي ملازمن خاص طور انهن انجنيئر دوستن، ٽيڪنيڪل اسٽاف ۽ پائپ لائين تي ڪم ڪندڙن لاءِ فراهم ڪرڻ جو سلسلو شروع ڪيو ويو آهي جيڪي پائپ لائين تي مرمت ۽ سنڀال جو ڪم ڪن ٿا ۽ پنهنجي فيلڊ ۾ محنت ۽ ڄاڻ حاصل ڪرڻ لاءِ ڪوشا آهن.

منظور حسين ڪالرو

مئنيجر (CP)، حيدرآباد.

سسٽم ڪهڙو به استعمال ڪجي پر انهن کي مينوفيكچر جي ٻڌايل طريقيڪار مطابق ڪتب آڻڻ ضروري ۽ ان ڳالهه جو خيال رکڻ لازمي سمجهيو وڃي ٿو ته ڪوٽنگ مناسب نموني ۽ مضبوطيءَ سان پائپ لائين تي ويڙهيل هجي ڇو جو بهترين ڪوٽنگ ٿي پائپ لائين جي زندگيءَ جي ضمانت آهي. جيئن ته گذريل مهيني واري آرٽيڪل ۾ C.P سسٽم بابت مختصر ذڪر ڪيو ويو هو هن سلسلي کي اڳتي وڌائيندي اها آگاهي ڏجي ٿي ته C.P سسٽم ڪوٽيڊ پائپ لائين جي اهڙن نقصان زده حصن جي حفاظت ڪندي آهي جتي پائپ لائين جي ڪوٽنگ ڪمزور ٿيڻ ڪري پائپ کان ڌار ٿيو وڃي. ايئن پائپ لائين جو رابطو زمين سان ٿيڻ ڪري زنگ لڳڻ جو سبب بنجي ٿو. هن سلسلي کي وڌيڪ اڳتي وڌائيندي

ايم ڊي پاران رڪارڊ پئداوار تي ميٽر پلانٽ جي ساراهه



ايس جي ايم (MS) سليم احمد مغل، ايس جي ايم (ڊسٽريبيوشن) زاهد ممتاز، اي ايس جي ايم (ڪسٽمر سروسز) شوڪت بلوچ، اي ايس جي ايم (ٽرانسميشن) شاهد ايڇ، جعفري، CFO يوسف جي، انصاري، ڪمپني سيڪريٽري ماجد ملڪ، اي جي ايم سروسز ۽ ڊاڪٽر اعجاز احمد PSO تو ايم ڊي پڻ موقعي تي موجود هئا. قوم اسيمبلي جي اسپيڪر بدين جي شهرن کي گئس ڏيڻ جو افتتاح ڪيو. قومي اسيمبلي جي اسپيڪر ڊاڪٽر فهميده مرزا بدين ضلعي جي شهرن نندو ۽ کوسڪي ان جي رستي ۾ ايندڙ ڳوٺن چوڌري دين محمد ۽ جان محمد ويهڙو کي سوئي گئس جي فراهمي جو افتتاح ڪيو. افتتاحي تقريبن 22 اپريل، 2010 تي منعقد ٿيون جن ۾ سوئي سدرن گئس ڪمپن جي عملدارن ۽ واسطيدار علائقن جي ماڻهن وڏي انگ ۾ شرڪت ڪئي. انهن افتتاحي تقريبن ۾ گهرو کاتي جو صوبائي وزير ۽ اين اي اسپيڪر جو وڏو وفد ۽ مرزا پڻ موجود هو. SSGC جي نمائندگي ٻين کانسواءِ مشتاق صديقي (AGM (D سنڌ ۽ محمد هاشم، پروجيڪٽ ڊائريڪٽر ڪئي. نندو ۽ کوسڪي ۾ 40 هزار 658 ڪلو ميٽرن جي فاصلي جي جملي پائپ لائين سميت گئس پائپ لائين پروجيڪٽ لاءِ 06 انچ ۽ 04 انچ قطر جي 23000 ڪلو ميٽر سپلائي مين ۽ 3" 4" ۽ 1" قطر جي 7770 ڊسٽريبيوشن مين شامل آهي. انهن پروجيڪٽن جي ڪٽيل لاڳت 119.706 ملين رپيا آهي جن سان نندو ۽ کوسڪي ۾ 117 صارفين کان وڌيڪ کي فائو پيچي سگهندو بئي طرحوڌري دين محمد ۽ جان محمد ويهڙو جي ڳوٺن ۾ 370 کان وڌيڪ صارفين کي فائو پيچندو، جتي ڪل 10254 ڪلو ميٽرن جي جملي پائپ لائين فاصلي سان 14 انچ قطر، 6.3 ڪلو ميٽر سپلائي مين ۽ 1.5 ۽ 2.5 ڪلو ميٽرن جي 3" ۽ 1" قطر جي ڊسٽريبيوشن مين وڃائي ويندي پروجيڪٽ جي ڪٽيل لاڳت 25.358 ملين رپيا آهي.

مارچ 2010 کي SSGC ميٽر مينوفڪيچرنگ پلانٽس جي تاريخ ۾ سڀ کان وڌيڪ پئداواري مهيني جو اعزاز حاصل هوندو، جنهن ۾ 78000 يونٽس پيش ڪيا ويا هئا، هن اهم حاصلات کي يادگار بڻائڻ لاءِ 31 مارچ 2010 تي پلانٽس حدن اندر ڊاڪٽر فضل الله عباسي ايم ڊي، SSGC جي مهمان خاص طور شرڪت سان هڪ تقريب منعقد ڪئي وئي ڪمپني جي سينئر انتظاميه، ميٽر پارٽ مڪيم عملدار، عملو ۽ مزدور ۽ CBA عهديدار پڻ هن موقعي تي شامل هئا، جنهن جو انتظام مدني صديقي (ADGM(MP ۽ سندس ٽيم پاران ڪيو ويو هو. مارچ 2010 دوران 25000 ريمس G-1.6 ۽ 530000 گيس 2000 جي 4-ميٽرس ٺاهيا ويا هئا.

رڪارڊ پئداوار لاءِ ٽيم کي پاڻي ڪرڻ لاءِ سهڪار بابت ايم ڊي، SSGC چيو ته هڪ انجنيئر طور هن سخت محنت ڪري هڪ منٽ ۾ 5 ميٽر ٺاهيا جيڪي هر لحاظ سان هڪ وڏي حاصلات آهي ايم ڊي 1990 ۾ ڪمپني جي ميٽر پلانٽ ۾ پنهنجي وقت کي سارهندي چيو ته ميٽر ۾ جڏهن به ڪو نقص سامهون آيو، هوندو ته هو مسئلي جي نوعيت ڄاڻڻ لاءِ پاڻ موقعي تي پهتو هوندو، ساڳي ريت آئون جڏهن USA ۾ هئس ته هميشه ماڻهن ۾ موجود رهيس ته جيئن ميٽر جي مسئلي بابت صحيح صورتحال جي خبر پوي. ايم ڊي موقعي تي موجود فلور مزدورن کي چيو ته هو ميٽر جي مستقبل جي سڌارن لاءِ تجويزون ڏين خاص ڪري PUG (غير رجسٽرڊ گئس گذرڻ بابت) ان جي هڪ تعداد ڄاڻائين، ته جيئن هن مسئلي جو مستقل حل سامهون اچي سگهي. سينئر مئنيجمينٽ جي سهڪار لاءِ سندن جا ٿورا مڃيا، هن چيو ته ميٽر جي حصن جي وقت سر انتظام ۽ مزدوري جي اثرائتي رغب سبب ميٽر پلانٽ پاران ٽارگيٽ ڪاميابي سان حاصل ٿيو. رياض اخترا عواڻ چيئرمين پيپلز ليبر يونين CBA، چيو ته UFG کي گهٽائڻ لاءِ لازمي ريت انتظاميه ۽ مزدور پاڻ ۾ گڏجي ڪم ڪن، بعد ۾ ميٽر پلانٽس جي فلور انجنيئر مسٽر راشد، ورڪرز ڪليمر صديقي ۽ صادق الله ۽ چيئرمين PLU، ايم ڊي ۽ انتظاميه سان گڏجي تقريب کي ملهائڻ جو ڪيڪ کائڻو سيد حسن نواب، ڊي ايم ڊي (آپريشنز اينڊ پلاننگ) (راهن ڪمال صديقي، ايس جي ايم (ES) ظهير صديقي،